

**PRESS RELEASE**

For immediate release

January 7, 2023

**SECP apprised digital lenders on new regulatory requirements**

ISLAMABAD, January 7: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) briefed the non-banking finance companies (NBFCs) on improved regulatory requirements, recently imposed through Circular No 15 to address the complaints of mis-selling, inflated charges and undue access to customers data. Senior management of all the licensed NBFCs, engaged in digital lending participated in the online session.

Giving an overview of the circular's key requirements, SECP Executive Director Khalida Habib informed the participants that the SECP has imposed restrictions on deducting upfront charges from the lent amount. Moreover, the lending companies stopped from operating more than one digital App at Google Play store or any other platform. However, they can launch different products and schemes under one Master App.

Companies that are already running more than one App, have been asked to identify one Master App and shutdown the other apps within 90 days. The companies are also required to maintain confidentiality of user data and provide audit reports of their apps from a PTA approved IT security audit firm. Digital lenders are also required to disclose their full corporate name on their mobile applications.

SECP's Additional Joint Director Ahmad Abdul Moiz Khawaja briefed the participants on regulations regarding clear disclosures of loan terms & conditions, requirements of managing credit risk, advertisements, grievance redressal systems and loan collection methods. He conveyed the NBFC companies cannot change the terms of the loan agreement without prior consent of the borrower.

The SECP has issued digital lending license to M/s Sarmaya Microfinance (Pvt.) Limited, M/s Cashew Financial Services Limited, M/s Credit Fix Financial Services Limited, M/s Qisstpays BNPL Private Limited, M/s Seedcred Financial Services Limited, M/s Finja Lending Services Limited, M/s Tez Financial Services Limited, M/s Abhi Private LTD, M/s Mirco Cred Financial Services Ltd, and M/s Humraah Financial Services Limited.

## ایس ای سی پی نے ڈیجیٹل قرض دینے والی کمپنیوں کو نئے ریگولیٹری تقاضوں سے آگاہ کیا

اسلام آباد، 7 جنوری: سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ڈیجیٹل قرض دینے والی کمپنیوں کو نئے ریگولیٹری تقاضوں کے بارے میں آگاہ کیا، جو مس سیلنگ کو روکنے، صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت اور شکایات کے ازالے کے لیے حال ہی میں جاری کیے گئے سرکلر نمبر 15 کے ذریعے نافذ کیے گئے ہیں۔

تمام لائسنس یافتہ نان بینکنگ فنانس کمپنیوں کی سینئر انتظامیہ نے ایس ای سی پی کی طرف سے منعقد کردہ آن لائن سیشن میں شرکت کی۔ سرکلر 15 کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہوئے، ایس ای سی پی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالدہ حبیب نے شرکاء کو بتایا کہ ایس ای سی پی نے قرضے کی رقم سے اپ فرنٹ چارج کاٹنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مزید یہ کہ ڈیجیٹل لینڈنگ کمپنیوں کو گوگل پلے اسٹور یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر ایک سے زیادہ ڈیجیٹل ایپ چلانے سے روک دیا گیا ہے۔ تاہم، مختلف پروڈکٹس اور اسکیمیں ایک ماسٹر ایپ کے تحت لانچ کیے جاسکتے ہیں۔

وہ کمپنیاں جو پہلے سے ایک سے زیادہ ایپ چلا رہی تھیں، انہیں ایک ماسٹر ایپ کی شناخت کرنے اور دیگر ایپس کو 90 دن کے اندر بند کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ صارفین کے ڈیٹا کی رازداری اور پی ٹی اے سے منظور شدہ آئی ٹی سیکیورٹی آڈٹ فرم سے ایپس کی آڈٹ رپورٹس بھی نئی ریگولیشنز میں شامل ہیں۔ ڈیجیٹل قرض دہندگان کو بھی اپنے موبائل ایپلیکیشنز پر اپنا پورا کارپوریٹ نام ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔

ایس ای سی پی کے ایڈیشنل جوائنٹ ڈائریکٹر احمد عبد المعیز خواجہ نے شرکاء کو قرض کی شرائط و ضوابط کے واضح ڈسکلوژرز، کریڈٹ رسک کے انتظام کے تقاضوں، صارفین کی شکایات کے ازالے کے نظام، اور قرض کی وصولی کے جائز طریقوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نان بینکنگ فنانس کمپنیاں قرض لینے والے کی پیشگی اجازت کے بغیر قرض کے معاہدے کی شرائط کو تبدیل نہیں کر سکتیں۔ شرکاء نے ڈیجیٹل قرضے کی صنعت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک جامع فریم ورک پیش کرنے کے لیے ایس ای سی پی کی کوششوں کو سراہا۔

ایس ای سی پی کی لائسنس یافتہ ڈیجیٹل قرض دینے والی کمپنیوں میں سرمایہ مائیکرو فنانس (پرائیویٹ) لمیٹڈ، کاشیو فنانشل سروسز لمیٹڈ، کریڈٹ فکس فنانشل سروسز لمیٹڈ، قسط پے بی این پی ایل پرائیویٹ لمیٹڈ، سیڈ کریڈٹ فنانشل سروسز لمیٹڈ، فجا لینڈنگ سروسز لمیٹڈ، تیز فنانشل سروسز لمیٹڈ، ابھی پرائیویٹ لمیٹڈ، مائیکرو کریڈٹ فنانشل سروسز لمیٹڈ، اور ہمراہ فنانشل سروسز لمیٹڈ شامل ہیں۔